

19 اپریل 2018

حکومت اونٹاریو نے ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں ریٹرنس یونیورسٹی کیمپس کے لیے مثبت عندیہ دے دیا

اس میں شیریڈن کالج بطور تعلیمی شراکت دار شامل ہے، ایک ایسا پراجیکٹ جو تبدیلی کا شعلہ جلانے گا

برامپٹن، آن – برامپٹن اور GTHA کے اردگرد سے تعلق رکھنے والے سیاسی اور کاروباری رہنما ایک اہم تعلیمی انفراسٹرکچر کے اعلان کا جشن منانے کے لیے آج برامپٹن بورڈ آف ٹریڈ کی تقریب میں جمع ہوئے۔ جنابہ میٹری ہنٹر، منسٹر آف ایڈوانسڈ ایجوکیشن اینڈ اسکولز ڈیولپمنٹ، نے جنابہ بیرنڈز مالہی، MPP برامپٹن اسپرنگ ڈیل اور منسٹر آف اسٹیٹس آف وومن، کے ساتھ ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں ریٹرنس یونیورسٹی کے ایک نئے کیمپس، جس میں شیریڈن کالج تعلیمی شراکت دار ہو گا، کے قیام کا اعلان کیا ہے۔

کلاسز کے کھلنے کی توقع 2022 کی خزاں میں کی جا رہی ہے، یہ نیا کیمپس تجرباتی طور پر سیکھنے کے علاوہ طلباء کو ڈیٹا پر مبنی سائنسی اور کاروباری پروگرام فراہم کرنے پر مرکوز ہو گا۔ منصوبوں میں نیا کیمپس، نیشنل سنٹر فار سائبر سیکورٹی کے لیے ایک شراکت داری اور ایک سنٹر فار انوویشن کا قیام – مشترکہ استعمال کی ایک سہولت گاہ، جس میں عوامی اور تعلیمی لائبریری اور جدت کا ایک شعبہ بھی شامل ہو گا۔ نیا کیمپس ڈاؤن ٹاؤن گو اسٹیٹس کے قریب بنایا جائے گا۔ سنٹر آف انوویشن موجودہ نیلسن اسکوائر پارکنگ گراج کے اردگرد کے علاقے میں بنے گا۔

برامپٹن کی میئر لنڈا جیفری کا کہنا تھا کہ "یہ برامپٹن کے لیے کئی نسلوں میں ایک مرتبہ آنے والا موقع ہے اور ہم ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں ایک نیا کیمپس اور سنٹر فار انوویشن لانے کے لیے دو بڑے اداروں – ریٹرنس یونیورسٹی اور شیریڈن کالج – کے ساتھ شراکت داری کرنے پر بے حد خوش ہیں۔" انہوں نے مزید کہا کہ "آج کا زبردست اعلان برامپٹن کے لیے تبدیلی اور ہمارے رہائشیوں کے لیے نئے مواقع کا اعلان ہے۔ ہم برامپٹن کو سیکھنے اور جدت کی منزل بنانے کے لیے ریٹرنس اور شیریڈن کے ساتھ اپنی بہترین شراکت دار کو جاری رکھنے کے لیے پر امید ہیں۔"

برامپٹن میں ایک نئی یونیورسٹی لانا سٹی کے لیے ایک کلیدی ترجیح رہا ہے۔ ستمبر 2017 میں، برامپٹن سٹی کونسل نے ایک نئی یونیورسٹی اور سنٹر فار انوویشن کے لیے \$150 ملین کا ایک عہد ساز وعدہ کیا تھا۔

سٹی آف برامپٹن نے مستقبل میں کامیابی کی بنیاد ڈالنے کے لیے پچھلے سال کے دوران شراکت داروں، کمیونٹی گروہوں اور کاروباروں کے ساتھ فعال طور پر تعامل کیا ہے۔ کامیابی میں اہم کردار ادا کرنے والا ایک اور اہم عنصر بلیو ربن پینل کا نام تھا، جو کونسل کی جانب سے برامپٹن میں یونیورسٹی لانے کے لیے سفارشات فراہم کرنے کے لیے تشکیل دیا گیا تھا۔ 2017 میں، سٹی نے معاشی اثرات کا ایک مطالعہ شروع کیا، جس نے نئی یونیورسٹی اور سنٹر فار انوویشن کے معاشی اور سماجی فوائد کی وسیع اقسام کی نشاندہی کی۔ سٹی، سنٹر فار انوویشن کے لیے ایک ویژن تیار کرنے کے لیے بھی اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کر رہا ہے اور موجودہ طور پر اس سہولت گاہ کے لیے آرکیٹیکچرل سروسز کے حصول کے لیے ایک گزارش کو زیر غور لایا جا رہا ہے۔

پال ایلڈونٹی، جو سٹی آف برامپٹن کے لیے یونیورسٹی کے اقدام کے پراجیکٹ منیجر ہیں، کا کہنا تھا کہ "ہم نے ریٹرنس اور شیریڈن کے ساتھ ایک مضبوط شراکت داری قائم کی ہے۔ انہوں نے مزید کہا "ہم اس زبردست پراجیکٹ پر ایک ساتھ آگے بڑھنے کے لیے پرجوش ہیں، جو برامپٹن اور اس کے رہائشیوں کے لیے بڑے معاشی اور ثقافتی فوائد لانے گا۔ یہ پراجیکٹ ہمیں یعنی ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں مستقبل کی مہارت یافتہ افرادی قوت تیار کرے گا۔"

یہ ریٹرنس کی اپنے مشہور ڈاؤن ٹاؤن ٹورانٹو کیمپس سے باہر تعلیمی پروگراموں کی پہلی توسیع ہے۔ ریٹرنس شہروں کو بنانے والے ایک ادارے کے طور پر ساکھ رکھتا ہے اور اپنے کاروبار پر مرکوز انوویشن زونز کے لیے عالمی طور پر پہچانا جاتا ہے۔ کیریئر کے رجحان پر تعلیمی توجہ کے ساتھ، ریٹرنس کو اونٹاریو کی کسی بھی یونیورسٹی کی نسبت جگہ کے لحاظ سے سب سے زیادہ درخواستیں موصول ہوتی ہیں۔

ڈاکٹر محمد لاجیمی، ریٹرنس یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ اور وائس چانسلر، کا کہنا تھا کہ "برامپٹن میں توسیع کے ساتھ، ریٹرنس کینیڈا کی تیز ترین رفتار سے بڑھنے والی اور متنوع ترین کمیونٹیوں میں سے ایک میں طلباء کو بے حد ضروری یونیورسٹی کے پروگرام فراہم کرے گا۔" انہوں نے مزید کہا "ہم اس علاقے میں طلباء کو ایسے جدت پسند تعلیمی پروگرام فراہم کرنے کے لیے شیریڈن کے ساتھ کام کرنے کے لیے

پر امید ہیں، جو جدید معاشرے میں کامیاب ہونے اور آگے بڑھنے کے لیے ضروری ہیں اور باریکی سے سوچنے اور مسئلے کے حل کی مہارتوں کی پیشکش کرتے ہوں۔"

شیریڈن، برامپٹن میں ایک وسیع تاریخ اور بڑے پروگراموں کی تیاری اور فراہمی کا مضبوط سابقہ ریکارڈ رکھتا ہے۔ برامپٹن پہلے سے ہی ڈیوس کیمپس اور سنٹر آف ایڈوانسڈ مینوفیکچرنگ اینڈ ڈیزائن ٹیکنالوجی کا گھر ہے۔ شیریڈن کے پاس عملی تحقیق اور تجرباتی طور پر سیکھنے کی اچھی ساکھ اور سٹی آف برامپٹن کے ساتھ شراکت داریاں قائم کرنے کی مضبوط تاریخ موجود ہے۔

ڈاکٹر میری پریسے، شیریڈن کی پریزیڈنٹ اور وائس چانسلر نے کہا کہ "شیريڈن کو اس پرجوش سفر پر ریٹرنس یونیورسٹی کے ساتھ شراکت داری قائم کرنے پر غیر معمولی طور پر فخر ہے۔" انہوں نے مزید کہا کہ "50 سال سے ہمیں برامپٹن کو اپنا گھر کہنے پر فخر ہے۔ آج کا دن ایک نئے دور کی ابتداء ہے۔ ہم شیريڈن کی تخلیقی طور پر مسائل کے حل کی مہارتوں کو سکھانے کی طاقت، جدت پیدا کرنے کے لیے ہمارے دونوں اداروں کے جانے مانے ریکارڈ اور تجرباتی طور پر سیکھنے کی قدر کے اپنے مشترکہ یقین کی بنیاد پر مزید آگے بڑھ رہے ہیں۔ ایک ساتھ مل کر، ہم طلباء کو ایسی تعلیم حاصل کرنے کے مزید مواقع فراہم کریں گے، جو موجودہ زمانے میں انتہائی اہمیت رکھتے ہیں۔"

فوری حقائق

- اس پراجیکٹ میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز ستمبر 2022 سے متوقع ہے۔
- ریٹرنس یونیورسٹی نئے برامپٹن کیمپس میں 2,000 طلباء کے اندراج کے لیے منصوبہ بندی کر رہی ہے۔
- سٹی آف برامپٹن نے ایک یونیورسٹی کی سہولت گاہ کے لیے 10 سال کے عرصے کے دوران \$50 ملین تک اور ایک سنٹر فار انوویشن کے لیے \$100 ملین تک کی رقم کا وعدہ کیا ہے۔
- سٹی آف برامپٹن اور صوبہ اونٹاریو کے درمیان مفاہمت کے مطابق، ایک نئی یونیورسٹی اور سنٹر فار انوویشن کے لیے تقریباً ایک چوتھائی ارب کی رقم کا وعدہ کیا گیا ہے۔
- سٹی نے 2017 میں معاشی اثرات کا ایک مطالعہ شروع کیا، جس نے ظاہر کیا کہ ایک نئی یونیورسٹی اور سنٹر فار انوویشن کی تعمیر اور مسلسل سالانہ عمل درآمد معاشی سرگرمی میں ہزاروں نوکریاں اور سینکڑوں ملین ڈالر آئیں گے۔
- ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن کا مقام آسانی سے آمد و رفت کے ذرائع سے قابل رسائی ہے، گو ٹرانزٹ کے ذریعے GTA اور انوویشن سپر کوریڈور سے جڑتا ہے اور کاروباری اور ثقافتی سرگرمیوں کو شروع کرنے میں مدد دے گا، جس سے برامپٹن ایک مثالی منزل بن جائے گا۔
- ڈاؤن ٹاؤن برامپٹن میں یونیورسٹی کی جگہ ٹورانٹو- واٹر لو انوویشن کوریڈور کے مرکز میں برامپٹن کے مقام کو مزید پختہ کرتی ہے، جو ٹیلنٹ، معلمین، سرمایہ کاروں، انٹرپرائیوز اور تیزی سے بڑھنے والی فرموں کو باہم منسلک کرنے کے لیے ایک ایکو سسٹم ہے۔

-30-

برامپٹن بڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتی، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انوویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع ارین سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نثر ہو۔ ہمیں **ٹویٹر** اور **فیس بک** پر فالو کریں۔ www.brampton.ca پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈیل

میڈیا کوآرڈینیٹر

سٹی آف برامپٹن

natalie.stogdill@brampton.ca | 905.874.3654